

نعت رسول مقبول ﷺ

روشن ہے جہاں آپ کے انوار سے خالد
 ہے زندہ یہ دل آپ کے افکار سے خالد
 نئے گل کی مہک سے ہی نہ تاروں کی چمک سے
 ملتا ہے سکوں آپ کے اذکار سے خالد
 جو کچھ بھی کہا آپ نے ہے دین وہ میرا
 اور کفر فقط آپ کے انکار سے خالد
 یہ چاند بھی ہے آپ کے چہرے کا ہی پرتو
 زرتاب جہاں آپ کے رخسار سے خالد
 حرفوں میں میرے آپ کے لہجے کی کھنک ہے
 شعروں میں ضیاء آپ کے انوار سے خالد
 ہیں ختم الرسل آپ ہی اور آپ ہی عاقب
 آتی ہے صدا دشت سے کوہسار سے خالد
 آزادی نسواں کا تصور بھی انہی کا
 احرار کا یوں ربط ہے سرکار سے خالد
 ہر نعت میری شوق عقیدت کا مرقع
 مہکے ہے ولا آپ کی اشعار سے خالد
 جب موجِ حوادث میں بھروسہ ہو انہی کا
 کیوں مجھ کو ڈرائے کوئی منجھار سے خالد
 دامن پہ صحابہ کے کوئی داغ نہ دھبہ
 گزرے ہیں وہ یوں عشق کے بازار سے خالد
 خالد ہے تیری زیت کارنگ انوکھا
 یہ رنگ چڑھا آپ کے اطوار سے خالد